



بوڈو کے رہائشی  
نائجیریا

7-16 دسمبر 2012

حقوق کے لیے قلم اٹھائیں  
تبدیلی کا سبب بنیں

## بوڈو برادری کی کہانی

کئی صدیوں سے نائیجر ڈیلٹا میں بسنے والے بوڈو کے لوگ نے ماہی گیری اور کھیتی باڑی پر گزارا کیا ہے۔ اٹھائیس اگست دو ہزار آٹھ کو یہ بردبار زندگی اچانک تبدیل ہو گئی جب تیل کی شیل پائپ لائن میں شگاف سے رسنے والا ہزاروں بیرل تیل قریبی کریک میں چلا گیا۔ بوڈو کے اردگرد کی زمین اور پانی تیل سے گندا ہو گیا۔ یہ شگاف سات نومبر تک جاری رہا۔

دسمبر دو ہزار آٹھ کو دوسرا شگاف شروع ہوا جو دس ہفتوں تک رستا رہا۔ دونوں شگاف کی وجہ آلات میں خرابی تھی۔ اس تیل نے لوگوں کا ذرائع معاش اور ماحول کو تباہ کر دیا۔ کریک یا کھاڑی میں موجود مچھلی یا تو مر گئی یا آلودگی سے دور چلی گئی۔ کوئی مناسب صفائی نہیں کی گئی ہے: یہ علاقہ اور پانی آلودہ اور ناقابل استعمال ہیں۔ ماہی گیری اور کھیتی باڑی

کو پہنچنے والے نقصان کے نتیجے میں بوڈو میں خوراک کی قلت اور اشیاء خوردو نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جون دو ہزار گیارہ میں پائپ میں تیسری لیک نے ان خدشات کو تقویت دی ہے کہ شیل کی پائپ لائن پرانی اور مزید لیک کا امکان رکھتی ہے۔

تیل کے رسنے کے نتیجے میں بوڈو کے کئی افراد کو مزید غربت میں دھکیل دیا گیا ہے۔ دریں اثناء آلودہ زمین، پانی اور فضاء ان کی صحت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔

### بوڈو برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں

اپنی ایک تصویر ان دو میں ایک لکھی ہوئی عبارت کے ساتھ بنائیں: 'بم بوڈو برادری کی حمایت کرتے ہیں' یا 'بوڈو میں تیل سے پیدا آلودگی صاف کریں'۔ اپنا پیغام انگریزی میں لکھیں۔

### صدر گوڈلک جانٹھن کو لکھیں

■ کہ وہ بوڈو میں آلودگی اور اس کے مقامی آبادی پر اثرات کی نگرانی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ صفائی ضرور ہو۔  
■ اس بات پر زور دیں کہ وہ عوامی سطح پر صفائی کی کارروائی اور اس سے جڑے تمام پہلوں کی شفافیت کا وعدہ کریں۔

■ ان سے کہیں کہ متاثرہ برادریوں کے نقصانات کا مکمل ازالہ کیا جائے اور نائیجر ڈیلٹا میں تیل کی کمپنیوں کے طریقے کار کا دوبارہ جائزہ لیں تاکہ آلودگی کو روکا جاسکے، تیل کے اخراج کی تیز اور موثر صفائی کو یقینی بنایا جائے اور متاثرہ لوگوں کو مناسب معاوضہ یقینی بنایا جائے۔  
■ انہیں تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کا کہیں تاکہ نائیجر ڈیلٹا میں شیل کی ماحولیاتی قوانین پر عمل داری کی رپورٹ تیار کرے اور اسے لوگوں کے سامنے رکھے۔

"We support the Bodo community"

"Clean up the Bodo oil spills"

اگر آپ کرسکیں تو یہ تصویر شیل پمپ یا شیل کے دفتر کے باہر لیں۔

اپنی تصویر اس پتہ پر ارسال کریں:

<http://www.flickr.com/photos/medianaija/>

مکتوب کا آغاز: اعلیٰ جناب

President Goodluck Jonathan  
President of the Federal Republic of Nigeria  
Office of the President  
Nigerian Presidential Complex, Aso Rock  
Abuja, Federal Capital Territory  
Nigeria

Amnesty International  
International Secretariat  
Peter Benenson House  
1 Easton Street  
London WC1X 0DW  
United Kingdom

AMNESTY  
INTERNATIONAL



ستمبر 2012  
انٹکس نمبر: AFR 44/039/2012 Urdu

[amnesty.org/individuals-at-risk](http://amnesty.org/individuals-at-risk)